

21532- کیا عورت اپنے خاوند کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے

سوال

کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیوی کا اپنے خاوند کو اس کے نام سے پکارنا جائز ہے؟

پسندیدہ جواب

عورت کے لیے اپنے خاوند کے اس کے نام سے پکارنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، لیکن اس مسئلہ میں لوگوں کی عادات اور عرف معتبر ہے

کسی ملک میں لوگوں کے اندر یہ معروف ہے کہ بیوی خاوند کو مثلاً کنیت سے پکارتی ہے، اور ان کے خیال میں خاوند کا نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے، یا پھر خاوند یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے اس کا نام لے کر پکارا جائے، تو عورت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔

اس لیے کہ ایسا کرنے میں خاوند سے حسن معاشرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی حسن معاشرت کا حکم دیا ہے، تو یہ حسن معاشرت نہیں کہ اسے اس نام سے مخاطب کیا جائے جسے وہ ناپسند کرتا ہو، یا پھر جسے لوگ نقص شمار کرتے ہوں۔

خاوند اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں جو اس کے نزدیک سب سے محبوب اور پیارا ہو، اس لیے کہ اس میں ان دونوں کے مابین محبت والفت و مودت پیدا ہوگی اور اس میں زیادتی بھی ہوگی۔

مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فیض القدر میں صحبت کے آداب بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ:

صحبت کے آداب میں راز افشاں نہ کرنا بلکہ اسے چھپانا، عیب کی پردہ پوشی کرنا، لوگوں کی وہ مذمت والی باتیں اسے پہنچانے سے گریز کرنا جو اسے اچھی نہیں لگتیں، بلکہ اسے لوگوں کی اس کے بارہ میں اچھی باتیں پہنچانی جائیں جو کہ اس کی تعریف کے بارہ میں ہوں۔

بات چیت میں اچھا رویہ اختیار کرنا اور اس کی بات کو سننا، حقوق میں اس کا شکر یہ ادا کرنا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف باتوں کی نفی کرنا اور اس کا دفاع کرنا، اور ضرورت کے وقت بغیر طلب کیے اس کا ساتھ دینا، اسے نرمی اور تعریف کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا، اگر اسے اس کی ضرورت ہو تو اس کی غلطی اور کوتاہی سے صرف نظر کرنا، اس پر عیب جوئی نہ کرنا، اس کی زندگی اور موت کے بعد بھی غلوت میں اس کے لیے دعا کرنا۔

اس کی خوشی کے وقت فرحت کا اظہار کرنا، اور اگر اسے کوئی نقصان ہو تو اس میں غم کا اظہار کرنا، جب وہ آئے تو سلام کرنے میں ابتدا کرنا، مجلس میں اس کے لیے جگہ بنانا، اس کے لیے اپنی جگہ سے نکلنا، اور اس کے کھڑے ہونے کی صورت میں اس کے پیچھے جانا، جب وہ کلام کر رہا ہو تو خاموشی اختیار کرنا، اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا جس طرح وہ پسند کرتا ہو۔ اھ، اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

واللہ اعلم.